



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 20/11/2022

یہودیوں اور LGBTQ کمیونٹیز پر حالیہ حملے کے بعد، گورنر HOCHUL نے اعلان کیا کہ نفرت انگیز جرائم کے اہداف کے لیے نیویارک کی ریاستی پولیس نے تحفظ میں اضافہ کیا ہے

ریاستی پولیس نیویارک شہر میں یہودی کمیونٹی کے خلاف نفرت انگیز دھمکی اور کولوراڈو میں LGBTQ نانٹ کلب میں فائرنگ کے ردعمل میں خطرے والے علاقوں کی نگرانی میں اضافہ کر رہی ہے

ریاستی پولیس NYPD کے ساتھ کام کر رہی ہے اور آن لائن نفرت کی نگرانی کی جا رہی ہے، انسدادِ دہشت گردی کا انتہیلی جنس یونٹ ممکنہ اہداف سے رابطہ کرے گا

حالیہ نفرت انگیز دھمکیوں پر گورنر Hochul کے دینے والے ریمارکس کی فوٹیج YouTube پر [یہاں](#) اور ٹی وی کوالٹی (H.264, MP4) فارمیٹ میں [یہاں](#) دستیاب ہے

گورنر Kathy Hochul نے آج اعلان کیا کہ نیویارک شہر میں یہودی کمیونٹیز پر ناکام حملے اور کولوراڈو میں ایک LGBTQ نانٹ کلب میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کے بعد، نیویارک کی ریاستی پولیس نفرت انگیز جرائم کے خطرے سے دوچار کمیونٹیز کی نگرانی اور تحفظ میں اضافہ کر رہی ہے۔ یہ کوششیں نفرت انگیز جرائم کے اہداف کے تحفظ اور گھریلو انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے فنڈنگ میں گورنر Hochul کے ریکارڈ اضافے پر استوار ہیں۔

"میں نے نیویارک کی ریاستی پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ ان کمیونٹیز کے لیے نگرانی کو بڑھائیں اور معاونت میں اضافہ کریں جو نفرت انگیز جرائم کے ممکنہ اہداف ہیں،" گورنر Hochul نے کہا۔ "ہم نیویارک میں، کسی بھی کمیونٹی کے خلاف تشدد یا تعصب برداشت نہیں کریں گے۔ ہم آج اور ہر روز — نفرت کے خلاف متحد ہیں۔"

نیویارک کی ریاستی پولیس کے قائم مقام سپرنٹنڈنٹ Steven A. Nigrelli نے کہا، "ریاستی پولیس ہمارے ریاستی، مقامی اور وفاقی شراکت داروں کے ساتھ قریبی ربط میں رہ کر کام کرے گی تاکہ ہماری تمام کمیونٹیز کو تشدد سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ہم اس مشن کو پورا کرنے میں مدد دینے کی خاطر گورنر Hochul کی جانب سے وسائل اور معاونت کی تعریف کرتے ہیں۔"

گورنر کی ہدایت کے مطابق، نیویارک کی ریاستی پولیس نفرت انگیز جرائم کی ممکنہ اہداف کمیونٹیز کے لیے نگرانی میں اضافہ کر رہی ہے۔ ریاستی پولیس NYPD کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان نفرت انگیز دھمکیوں کے لیے سوشل میڈیا کی نگرانی جاری ہے جس سے نیویارک کے باشندے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ریاستی پولیس کا انسدادِ دہشت گردی کا انتہیلی جنس یونٹ نیویارک بھر میں LGBTQ کمیونٹیز تک رسائی بھی کر رہا ہے، نیز ریاست میں موجود یہودی عبادت گاہوں اور یہودی کمیونٹی کے دیگر مقدس مقامات تک رسائی کا کام کر رہا ہے۔

گزشتہ روز، MTA پولیس، ریاستی پولیس، NYPD اور FBI جو انٹنٹ ٹیررازم ٹاسک فورس نے مینہیٹن کے پنسلوانیا اسٹیشن سے ان دو مسلح افراد کو گرفتار کرنے کے لیے ساتھ مل کر کام کیا جن پر الزام ہے کہ وہ یہودی کمیونٹی کے خلاف تشدد پھیلانے کے منصوبوں کے ساتھ نیویارک شہر کا سفر کر رہے تھے۔ گورنر Hochul کی جانب سے

ریاستی پولیس اور ریاست نیویارک انٹیلی جنس سینٹر کو فراہم کیے گئے وسائل میں اضافے نے ان گرفتاریوں میں تعاون کیا۔

بفلو میں سفید فام بالادستی کے سلسلے میں ہونے والی فائزنگ کے واقعے کے بعد، گورنر Hochul نے نفرت انگیز انتہا پسندی اور تشدد کا مقابلہ کرنے کے لیے وقف کردہ ریاستی وسائل میں اضافہ کیا۔ گورنر Hochul نے ایک وفاقی آرڈر جاری کیا جس میں نیویارک کی ریاستی پولیس کو ہدایت دی گئی کہ وہ ریاست نیویارک انٹیلی جنس سینٹر (New York State Intelligence Center، NYSIC) کے اندر ایک نیا یونٹ قائم کریں گے جو مقامی انتہا پسندی کا سراغ لگانے کے لیے وقف ہو گا اور انٹیلی جنس سینٹر میں سوشل میڈیا کی نگرانی میں اضافہ کرے گا۔ انہوں نے NYSIC کو تجزیہ کاروں کی ایک ٹیم کی صورت میں عملہ مہیا کر کے ریاست کے گن تشدد کے انٹیلی جنس وسائل کو تین گنا کرنے کے لیے مجلس قانون ساز کے ساتھ بھی کام کیا جو ریاست بھر میں گن جرائم کی تحقیقات کر سکتی ہے۔ گورنر Hochul نے اس قانون سازی پر بھی دستخط کیے جو گزشتہ ماہ نافذ ہوئی جس سے ان متاثرین اور پسماندگان کے لیے معاوضے کو بڑھا دیا گیا جن کی بنیادی ذاتی املاک کو نفرت انگیز جرائم اور دیگر جرائم کے نتیجے میں \$2,500 - یعنی پچھلی حد سے پانچ گنا زیادہ ضیاع یا نقصان پہنچا۔

اس ماہ کے شروع میں، گورنر Hochul نے ان غیر منافع بخش، کمیونٹی پر مبنی تنظیموں کے تحفظ اور حفاظتی اقدامات کو مستحکم کرنے کے لیے \$96 ملین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا، کہ جو اپنے نظریے، عقائد یا مشن کی وجہ نفرت انگیز جرائم کے خطرے سے دوچار ہیں یا حملوں کی زد میں ہیں۔ گورنر Hochul نے ریاست نیویارک کی کاؤنٹیز میں خطرے کی تشخیص اور انتظامی ٹیموں کی تشکیل میں معاونت دینے کے لیے \$10 ملین کا بھی اعلان کیا۔

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمبر | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418